

اگر کسی سچے دوست کو سچے دوستی سے محروم کر دیا جائے تو اسے کبھی
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر وہ سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے کبھی
 افسوس نہ آئے گا۔ "اگر کسی کو سچے دوست سے محروم کر دیا جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔" سچے دوست سے محروم ہونے کا درد کبھی کبھی
 محسوس ہوتا ہے اور سچے دوست سے محروم ہونے کا درد کبھی کبھی
 دہشت گردانہ ہوتا ہے۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔

خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر
 لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ
 ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغتِ تعلیم
 کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ

جس وقت سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے کبھی
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔

جس وقت سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے کبھی
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔

اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے کبھی
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔

اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے کبھی
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔

اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے کبھی
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔

اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے کبھی
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔ اگر سچے دوست سے محروم ہو جائے تو اسے
 افسوس نہ آئے گا۔

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: ۳۳)

ترجمہ: "اللہ کی راہ میں دعوت دینے والے اور اللہ کی راہ میں نیک عمل کرنے والے اور جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے" (اللہ کی راہ میں)
 یا اللہ کی راہ میں دعوت دینے والے اور اللہ کی راہ میں نیک عمل کرنے والے اور جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟"

